

معالجاتی نظریات



5278CH05

5

- اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:
- ۱) نفسیاتی علاج کی بنیادی نویعت اور طرزِ عمل سے واقف ہو سکیں۔
 - ۲) لوگوں کی مدد کے لیے مختلف قسم کے طریقہ علاج سے واقف ہو سکیں۔
 - ۳) نفسیاتی شکلؤں کے استعمال کو سمجھ سکیں۔
 - ۴) یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح چہنی انتشار کے شکار لوگوں کو بحال کیا جا سکتا ہے۔

تعارف

نفسیاتی علاج کی نویعت اور طریقہ

معالجاتی تعلقات

علاج کی قسمیں

مریض کے مسائل کو وضع کرنے کے اقدامات (باکس 5.1)

نفسی حرکی علاج

کرداری علاج

طریقہ استراحت یا استرخا (باکس 5.2)

وقوفی علاج

انسان مرکزی وجودی علاج

حیاتی طبی علاج

تبادل صورتی علاج

چہنی طور پر پیمار لوگوں کی بحالی

مشمولات

کلیدی اصطلاحات

خاصہ

اعادہ سوالات

پروجیکٹ کی تجاذبیہ

ویب لنس

تعلیماتی اشارات

گزشتہ باب میں آپ نے مختلف اہم نفسیاتی امراض اور ان سے مريضوں کو ہونے والی تکلیفوں کے بارے میں مطالعہ کیا ہے۔ اس باب میں آپ مختلف معالجاتی طریقہ جن کا استعمال ماہرین نفسیاتی علاج، مريضوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نفسیاتی علاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ذاتی مفہومت کو حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ جب کہ دیگر نظریہ علاج کار کردگی سے متعلق ہیں۔ ان سارے نظریات کا بنیادی مقصد مريضوں کے کمزور حالات سے ابھرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ کسی مريض کے لیے معالجاتی نظریہ کی اثرپذیری کئی عوامل پر مبنی ہے۔ مثلاً مرض کی شدت، دوسروں کو پہنچنے والی تکلیفوں کی مقدار اور لوگوں کے پاس وقت، محنت اور رقم کی فراہمی وغیرہ۔

سیمی علاجی نظریات کی نوعیت بنیادی طور پر ٹھیک کرنا اور مدد کرنا ہے۔ ان سیمی میں مريض و معالج کے درمیان آپسی تعلقات شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ میں تو یہ بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ جیسے نفسیاتی حرکی، جب کہ دیگر بالواسطہ ہوتے ہیں جیسے انسان مرتکز (person-centred)۔ اس باب میں ہم نفسیاتی علاج کی کچھ اہم اقسام کا مختصر طور پر ذکر کریں گے۔

نفسیاتی علاج کی نوعیت اور طریقہ

ایک ناجرب کار انسان بھلانی سے زیادہ غیر ارادی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ (III) معالجاتی ماحول میں ایک معالج اور ایک مريض شامل ہوتا ہے جو اپنے جذباتی مسائل کو حل کرنے میں مدد چاہتا اور مدد حاصل کرتا ہے۔ (اس شخص پر پورے معالجاتی عمل کے دوران توجہ مرکوز ہوتی ہے) اور (IV) ان دونوں افراد یعنی مريض اور معالج کے درمیان تعامل یا آپسی بات چیت کے با پر معالجاتی تعلقات قائم و مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایک رازدارانہ، بین شخصی اور حرکی تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ انسانی تعلقات کسی بھی طرح کے نفسی علاج کا مرکز ہوتے ہیں اور یہ تبدیلیوں کے لیے ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔

سبھی نفسیاتی معالجات کا مقصد مندرجہ ذیل میں سے کچھ یا سبھی مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔

- (i) مريض کے بہتر ہونے کے عزم کو مضبوط بنانا۔
- (ii) جذباتی دباؤ کو کم کرنا۔
- (iii) ایجادی نمو کے لیے موجودوت کا اکتشاف کرنا۔

نفسی علاج رضا کار ان طور پر علاج چاہنے والے یعنی مريض اور معالج کے درمیان آپسی تعلق ہے۔ اس تعلق کا مقصد مريض کو ان کے نفسیاتی مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ تعلق مريض میں اعتماد قائم کرتا ہے اس طرح وہ اپنے مسائل کا ذکر کھل کر کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی علاج کا مقصد غیر موافق کار کردگی کو بدلنا، ذاتی تکالیف کے احساس کو کم کرنا اور مريض کو ماحول کے ساتھ بہتر مطابقت میں مدد کرنا ہوتا ہے۔ ازدواجی ناکامی، پیشہ ذاتی اور سماجی تطبیق میں بھی اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے ذاتی ماحول میں ضروری ہوتی ہیں۔

سبھی نفسیاتی معالجاتی نظریات میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔

- (I) علاج کے متعلق نظریات میں اصولوں کا منظم احراق ہوتا ہے۔ (II) وہی لوگ جنمیں نے کسی ماہر کے زینگرانی تربیت لی ہے نفسیاتی علاج کر سکتے ہیں۔

ہمدردی و دوسرے فرد کے حالات کی ڈھنی سوچ بوجھ سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمدردی میں دوسرے متاثر لوگوں کے لیے درد اور محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے احساس کو سمجھنے بیس پاتا۔ عقلی سوچ بوجھ اس معنی میں کم باثر ہے کیونکہ ایک شخص نہ تو دوسروں کے احساس کو سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہے۔ دوسری طرف ہم احساس ہونا وہاں ہوتا ہے جہاں ایک شخص دوسرے کے دکھ کو سمجھ پاتا ہے اس کا مطلب دوسروں کے پس منظر میں چیزوں کو سمجھنا یعنی خود کو دوسروں کے رنگ میں ڈھالنا۔ ہم احساس معالجاتی تعلقات کو بہتر بنتا ہے اور اسے صحت مند تعلقات میں تبدیل کر دیتا ہے۔

معالجاتی معابدہ میں بھی معانج کو مریض کے تمام حالات، سوچ و فکر تجربات وغیرہ کو نہایت ہی پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معانج کو کسی بھی حالت میں مریض کے بھروسہ، اعتماد، احساسات اور فکر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ ایک پیشہ و رانہ تعلق ہوتا ہے جو کہ قائم رکھنا چاہیے۔

سرگرمی 5.1

آپ کرے کسی ساتھی یا دوست یا نیلی ویژن سیریل میں آپ کرے کسی چھینے کردار کو حال ہی میں کسی افسوسناک حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ (جیسے کسی چاہنے والے کا انتقال، کسی اہم دوستی کا ٹوٹنا) جس سے آپ واقف ہوں۔ آپ خود کو دوسرے لوگ کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے کو کیسا لگتا ہو گا۔ وہ کیا سوچتا ہو گا اس کے پورے پس منظر پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو دوسروں کے احساس کو سمجھنے میں مدد گار ہو گا۔

(نوٹ: یہ مشق کلاس میں بھی کی جاسکتی ہے تاکہ اساتذہ طلباء کی پریشانیوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کرسکیں)

- (iv) خصلتوں میں تبدیلی لانا۔
- (v) سوچنے کے انداز کو بدلتا۔
- (vi) اپنی واقعیت کو بڑھانا۔
- (vii) آپسی تعلقات و تسلی کو بہتر بنانا۔
- (viii) فیصلہ لینے میں سہولت فراہم کرنا۔
- (ix) زندگی میں اپنی پسندیدگی کے بارے میں باخبر ہونا۔
- (x) اپنے سماجی ماحول کو زیادہ خودشناک اور تخلیقی انداز میں دیکھنا۔

معالجاتی تعلقات

مریض اور معانج کے بیچ خاص قسم کے تعلقات کو معالجاتی تعلقات یا معابدہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ تو ایک ختم ہو جانے والی شناسائی ہے اور نہ ہی ایک مستقل قائم رہنے والا تعلق ہے۔ کسی معالجاتی معابدے کے دو اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا جز تعلقات کے معابدے کی نوعیت کا ہے جس میں دلوگ مریض اور معانج مرض سے ایک سماجھا معابدہ کرتے ہیں۔ جس کا مقصد مریض کے مسائل کو حل کرنے میں اس کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ اتحاد کا دوسرا جزو علاج کی محدود مدت ہے۔ یہ معابدہ تک قائم رہتا ہے جب تک کہ مریض خود کو بہتر بنالے اور اپنی زندگی پر پورا اختیار نہ حاصل کر لے۔ اس طرح کے تعلقات کی کئی منفرد خصوصیات ہیں۔ یہ ایک بھروسہ مند اور رازدارانہ تعلق ہے۔ یہ اعلیٰ سطحی بھروسہ معانج کے سامنے مریض کے اپنے دل کا بارہا کرنے میں اور اس کے ذاتی و نفسیاتی مسائل کی رازداری برتنے میں مدد کرتا ہے۔ معانج ایسے مریض کے تین قویتیں، پر جوش و معقول ہمدردانہ رخ اختیار کرنے کے ذریعے اسے بڑھاوا دیتا ہے۔ معانج اپنا یہ پیغام کہ وہ مریض کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر رہا ہے اپنے الفاظ اور کردار سے مریض تک پہنچائے گا اور مریض کی جانب اپنا ثابت رہ جان جاری رکھے گا اگرچہ مریض گستاخ ہو یا اپنی تمام غلط چیزیں جو اس نے کبھی کی ہوں یا اس کے بارے میں سوچا ہو، کوچھا بتاہی کیوں نہ ہو۔ یہ معانج کی جانب بلا شرط ایجادی رہ جان ہوتا ہے۔ معانج مریض کے تین ہم احساس ہوتا ہے۔ یہ ہم احساس ہونا

علاج کی قسمیں

خواب کے بیان کے ذریعہ مریض کی سوچ، فکر اور احساسات کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا مریض کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے تصادم کا سامنا کر سکے اور اس طرح اپنے مسائل پر قابو پاسکے۔ کرداری علاج میں ناقص التزامی وضع کی پیچان کی جاتی ہے اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے تبادل کرداری عدم نزوم یا اتفاقیت کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے علاج میں وقفي طریقہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو مریض کی غلط سوچ اور فکر کو چیخ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے نفسیاتی مسائل کو حل کر سکیں۔ جب کہ وجودی علاج میں ایک معالجاتی محول فراہم کیا جاتا ہے جو کہ ایجادی، قابل قبول وغیرہ فیصلہ کرن ہوتا ہے۔ اس میں مریض اپنے مسائل کے بارے میں بات چیت کرنے کے لائق ہوتا ہے اور اس میں معانج سہولت فراہم کرنے کا کام کرتا ہے۔ مریض کسی مسئلہ کا حل ذاتی نہ عمل کے ذریعہ کرتا ہے۔

(4) مریض و معالج کے بیچ معالجاتی تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ نفسی حرکی علاج کے مطابق معانج کو درون نفسی تصادم کے بارے میں سمجھ مریض سے بہتر ہوتی ہے اور اس لیے معانج ہی مریض کی سوچ اور احساس کیوضاحت ان کے سامنے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں مناسب سوچ بوجھ قائم ہو سکے۔ کرداری علاج کے مطابق معانج مریض کی غلط سوچ و سمجھ کو بدلنے کا کام کر سکتا ہے۔ اس میں مزید یہ بھی مانا گیا ہے کہ معانج صحیح طرز عمل اور سوچ کو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو مریض کے لیے تطبیق ہوتا ہے۔ نفسی حرکی اور کرداری علاج دونوں میں ہی یہ مانا گیا ہے کہ معانج مریض کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس معالج کے لیکھ برلکش وجودی علاج میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ معانج صرف ایک پر جوش اور ہم احساس رشتہ فراہم کرتا ہے جس میں مریض اپنے مسائل کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔

(5) مریض کا اہم فائدہ کیا ہے؟

گرچہ بھی نفسیاتی معالجات کا مقصد انسانی تکالیف کو دور کرنا اور موثر کردار کو بڑھاوا دینا ہے۔ پھر بھی ان کے ہنی خیالات، طریقہ کار اور اصولوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ نفسیاتی علاج تین بڑے گروپ میں درجہ بند کیے جاسکتے ہیں۔ یعنی نفسی حرکیات (Psychodynamics) اور بہaviour (behaviour) و وجودی (existential) نفسی معالجات بالترتیب نفسی حرکی علاج سب سے پہلے ظہور میں آیا اس کے بعد کرداری جب کہ وجودی علاج جسے تیسرا قوت کہا جاتا ہے آخر میں سامنے آیا۔ ان علاج کی درجہ بندی مندرجہ ذیل پیمانہ پر ہوتی ہے۔

(1) وہ کون سا سبب ہے جو آگے چل کر مسئلہ بن گیا؟ نفسی حرکی علاج کے نظریہ کے مطابق درون نفسی تصادم یعنی تصادم جو کسی انسان کے نفس میں موجود ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا ذریعہ بن جاتا ہے کرداری علاج کے مطابق نفسیاتی مسائل کا ظہور و قوف و کردار کی غلط تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کہ وجودی علاج کے مطابق کسی انسان کی زندگی کے مقصد سے جڑے سوال ہی ان کے نفسیاتی مسائل کے اسباب ہیں۔

(2) کس طرح سبب وجود میں آتا ہے؟ نفسی حرکی علاج کے مطابق بچپن کی ادھوری خواہشات اور حل نہ ہوئے خطرات کی وجہ سے درون نفسی تصادم واقع ہوتے ہیں۔ کرداری علاج کے مطابق التزامی وضع ناقص تربیت اور غلط سوچ اور ناقص تطبیق کردار کی وجہ بنتے ہیں جو بعد میں نفسی مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب کہ وجودی علاج موجودہ حالات کو اہمیت دیتا ہے۔ اور تہائی اور اکیلا پن (بیگانگی) اپنے بیکار وجود وغیرہ کا احساس ہی نفسیاتی مسائل کی وجہ ہے۔

(3) علاج کا اہم طریقہ کیا ہے؟ نفسی حرکی طریقہ علاج آزادانہ ایجاد کا طریقہ استعمال کرتا ہے اور

کلینیکی نفسیاتی تجزیہ کی مدت کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ بہر حال نفسی حرکی معالجات کی متعدد حالیہ اشاعت میں اسے 10 یا 15 میقات میں مکمل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ کردار اور وقوفی کردار معالج کے ساتھ ساتھ وجودی علاج کی مدت کم ہوتی ہے اور یہ کچھ مہینہ میں ہی مکمل ہو جاتی ہے۔

اس طرح سے مختلف قسم کے نفسی معالجات کی پیمانہ پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہر حال یہ سبھی منطقی ذرائع سے نفسیاتی پریشانیوں کے علاج کا ایک عام طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ معانع، معالجاتی رشتہ اور اوسط طریقہ علاج مریض میں تبدیلی کے عوامل بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی پریشانیوں سے چھکا را پایا جاتا ہے۔ نفسیاتی علاج کے عمل کی شروعات مریض کے مسائل کو وضع کرنے سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدام کا ذکر باس 5.1 میں کیا گیا ہے۔

نفسی حرکی علاج جذباتی بصیرت کی قدر کرتا ہے جو کہ ایک اہم فائدہ ہے جسے مریض علاج کے دوران حاصل کرتا ہے۔ جذباتی بصیرت اس وقت موجود ہوتی ہے جب مریض اپنے تصادم (conflicts) کو عقل کے بناء پر سمجھتا ہے، اسے جذباتی طور پر اپنانے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے جذبات کو تصادم کی جانب تبدیل کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ مریض کی علامت اور تکلیفوں میں جذباتی سوچ کی وجہ سے کی آجائی ہے۔ بدلتے ہوئے ناقص کردار اور موافق سوچ کے طریقے کو علاج کے اہم فائدہ کے طور پر مانا جاتا ہے مطابق یا صحت مند کارگزاری اور سوچ کے طریقہ کو قائم کرنے سے مریض کی تکلیفوں وغیرہ موافق علامتوں میں کمی آتی ہے انسان مرکزی علاج ذاتی نمکواہم فائدہ کے طور پر مانتی ہے۔ ذاتی نموداں پہنچنے والے میں سوچ بوجھ اور اپنی خواہشات، جذبات اور ضرورت میں اضافہ کرنے کا طریقہ ہے۔

(6) علاج کی مدت کیا ہے؟

باکس
5.1

مریض کے مسائل کو وضع کرنے کے اقدامات

طبی وضع سے مراد مسائل کی اس وضع سے ہے جو علاج کے لیے معالجاتی طریقے کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلینیکی وضع کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

- 1۔ مسئلہ کی سمجھہ: معانع مریض کو ہورہی تکلیف کے تاثرات کو سمجھ پاسکتا ہے۔
- 2۔ ان حلقوں کی شناخت کرنا جن کا علاج اس نفسیاتی علاج کرے ذریعہ ہوتا ہے۔ نظریاتی وضع علاج کیے جانے والے حلقوں کے مسئلہ کی پیچان صاف طور پر کرتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مریض کسی نوکری کو حاصل کرنے میں اہل نہ ہونے کی معدترت میں مدد چاہتا ہے اور اعلیٰ عہدیداروں کا سامنا کرنے میں اپنی نااہلی کا اظہار کرتا ہے تب کرداری علاج میں کلینیکی وضع دوستی مہارت میں کمی اور تشویش کو بیان کرے گی۔ اس طرح حلقة مقاصد کی پیچان خود میں دوستی کی اور بڑھے ہوئے اندیشہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔
- 3۔ علاج کے طریقہ کا انتخاب: علاج کے طریقہ کا انتخاب معالجاتی نظام پر منحصر کرتا ہے جس میں معانع کو تربیت دی جاتی ہے۔ بہر حال یہاں تک کہ ایک بڑے علاقہ میں بھی معالجاتی طریقہ کا انتخاب، طریقہ کے اوقات اور علاج سے حاصل ہونے والے تیجوں کا اندازہ کلینیکی وضع پر منحصر ہوتا ہے۔

کلینیکی وضع جاری رہنے والا اک عمل ہے۔ وضع میں دو مارہ وضع کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیوں کہ علاج کے عمل کے دوران طبی سوچ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ عام طور سے پہلے ایک یا دو میقات میں شروعاتی کلینیکی ترتیب کے لیے کافی طبی مواد حاصل ہوتے ہیں۔ بغیر طبی ترتیب کے نفسیاتی علاج کو شروع کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔

ان اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں جنہیں آپ جانتے ہیں اور جو معالجاتی امداد فراہم کرتے ہیں۔

کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بات ذہن میں ہے اسے بغیر کسی رکاوٹ کے بولتا جائے۔ اس طرح مریض کو ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر تعلق بنانے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس لیے اس طریقہ کو آزادانہ اختلاف طریقہ کہا جاتا ہے اختسابی (رکاوٹ کرنے والے) فوق ان اور چوکس ان کو مریض کے بولتے وقت تعیل میں رکھا جاتا ہے تاکہ مریض ایک پرسکون اور بھروسہ مند ماحول میں جو بھی ذہن میں آئے بولتا جائے۔ چونکہ معانع روک ٹوک نہیں کرتا اس لیے وہ خیالات، خواہشات اور تصادم جو لاشعور (unconscious) میں دبے ہوتے ہیں آسانی سے شعوری ذہن میں ابھر کر آجاتے ہیں۔ مریض کا یہ آزادانہ بغیر کسی رکاوٹ والا بیان اس کے لاشعور تک کی کھڑکی ہے جو معانع لج کے پہنچ میں ہوتی ہے۔ اس طریقہ کے ساتھ ساتھ مریض کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خواب کو کھیس جوانہوں نے دیکھا ہے۔ ماہر نفسی تحلیل (Psychoanalysis) ان خوابوں کو ایسے خواہشات کی نشاندہی مانتے ہیں جو لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ خوابوں کی تشبیہات درون نفسی قوتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خواب میں علامتوں کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بالواسطہ اظہار ہے اور یہ ان کو چوکس نہیں کرتے۔ اگر غیر تکمیلی خواہشات کا اظہار برآ راست ہو تو ہمیشہ چوکس رہنے والی انہیں دادے گی اور وہ اندیشہ (تشویش) کو پیدا کرے گی۔ ان علامتوں کی وضاحت ترجیح کی تسلیم شدہ روایت کے مطابق کی جاتی ہے، غیر تکمیل شدہ خواہشات اور تصادم کے اظہار یہ کے طور پر کی جاتی ہے۔

علاج کا طریقہ عمل

منقولی اور تعبیر مریض کے علاج کے طریقہ عمل ہیں جیسے ہی آزادانہ اختلاف اور خواب کی وضاحت جس کا بیان اور پر کیا جا پکا ہے، کے ذریعہ لاشعور میں دبی خواہشات کو شعور میں لایا جاتا ہے مریض معانع کو ماضی، خاص طور سے پہنچنے کے حاکم کی حیثیت سے پہچانا شروع کر دیتا ہے۔ معانع کو سزا دینے والے کی طرح بھی دیکھ سکتا ہے یا لاپرواہ ماں کی طرح بھی دیکھ سکتا ہے۔ معانع خود کو کسی طرح کی رائے قائم نہ کرنے والا بلکہ وہ رواہی کا رویہ بنائے رکھتا ہے

مندرجہ ذیل حصہ میں تیوں اہم نظام اور نفسیاتی علاج میں استعمال کیے جانے والے ہر ایک طریقہ علاج کے نمونہ کی تشریح کی گئی ہے۔

نفسی حرکی علاج

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نفسی حرکی علاج جس کا نظریہ سب سے پہلے سگمنڈ فرانڈنے نے دیا تھا سے پرانا طریقہ ہے۔ ان کے قریبی ساتھی کارل جگ نے اس میں ترمیم کی جسے آج تجزیاتی نفسی علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانڈنے کے جانشین جو نیفر یڈن کے نام سے جانے جاتے ہیں کلائیکی نفسی حرکی علاج کا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ موٹے طور پر نفسی حرکی علاج میں سائیکی کی ساخت، سائیکی کے مختلف اجزاء کے درمیان حرکیات اور نفسیاتی پریشانیوں کے ذرائع کو تصوراتی شکل فراہم ہوئی۔ آپ پہلے ہی ان نظریوں کا مطالعہ خود ادا ری، شخصیت اور نفسیاتی انتشار کے ابواب میں کر چکے ہیں۔ طریقہ علاج سے متعلق اقدام، معالجاتی تعلقاتی نوعیت اور نفسی حرکی علاج سے اخذ ترجیح کا ذکر رینجے کیا گیا ہے۔

درون نفسی کشاکش کو ظاہر کرنے والے طریقے کی نوعیت۔

چونکہ نفسی تجزیاتی نظریہ درون نفسی کشاکش کو نفسیاتی بیماریوں کی وجہ مانتا ہے۔ اس لیے اس علاج کا پہلا قدم اس درون نفسی کشاکش یا تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ نفسیاتی تجزیے نے اس درون نفسی کشاکش کو ظاہر کرنے کے لیے آزادانہ اختلاف اور تعبیر خواب جیسے دواہم طریقہ ایجاد کیے۔ آزادانہ اختلاف مریض کے مسائل کو سمجھنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ ایک بار جب معالجاتی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور مریض آرام محسوس کرتا ہے تو معانع اسے بستر پر آرام

مریض کو اس کی نفیات کے اسی شعبہ کے بارے میں بتاتا ہے جس کا سامنا کرنا مریض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وضاحت ایک عمل ہے جس کے ذریعہ معالج کسی غیر واضح اور الجھے ہوئے حالات کو سامنے لاتا ہے۔ یہ کام ضروری تفصیلات کو غیر ضروری تفصیلات اور حالات سے الگ کر کے اور ابھار کر کیا جاتا ہے۔ ترجمانی ایک باریک اور مختصر عمل ہے۔ اسے نفسی تحلیل (Psychoanalysis) کا نقطہ کمال (Pinnacle) کہا جاتا ہے۔ معالج لاشعوری مادے کا استعمال کرتا ہے جس کا انکشاف آزادانہ اختلاف، خواب کی تعبیر، اور مزاحمت کے عمل کے دوران ہوتا ہے۔ اس سے مریض ان نفیاتی مواد اور تصادم یا کشاش سے آگاہ ہوتا ہے جن کے نتیجے میں مخصوص واقعات، علامات اور تصادم واقع ہوئے تھے۔ ترجمانی درون نفسی تصادم یا محرومیت جو کہ بچپن میں ہو گئی تھی پر زور دے سکتی ہے۔ مجاز آرائی کے استعمال، وضاحت اور ترجمانی کے عمل کو بار بار دہرانے کو مکمل کارکردگی کہا جاتا ہے۔ مکمل کارکردگی مریض کو خود کو سمجھنے، مسئلہ کی وجہ کو جانے اور سامنے لائی گئی باقتوں کو اس کی انسان سے جوڑنے کے کام میں مدد کرتی ہے۔

مکمل کارکردگی کے نتیجے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ بصیرت اچانک نہیں پیدا ہوتی بلکہ یہ رفتہ رفتہ ہونے والا عمل ہے جس میں لاشعوری یا داداشت بار بار علم و شعور میں آتی ہے۔ ان لاشعوری واقعات اور یادداشت کا منتقلی میں دوبارہ تجربہ ہوتا ہے اور یہ کامل کارکردگی ہیں۔ چونکہ یہ عمل لگاتار چلتا رہتا ہے اس لیے مریض اپنے آپ کو جذباتی و عقلی طور پر ہتھڑھنگ سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنے مسائل و تصادم کی بصیرت حاصل ہونے لگتی ہے۔ عقلی سمجھ اور ذہنی بصیرت کہتے ہیں جذباتوں کو سمجھنا، اپنے غیر موافق رد عمل کو تسلیم کرنا جو ماضی میں ناخوٹگوار واقعات کے طور پر ہوئے ہوں اور اپنے جذبات کو بدلنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی لانا ہی جذباتی سوچھ بوجھ کھلاتی ہے۔ بصیرت کسی علاج کی آخری منزل ہوتی ہے کیونکہ مریض اس میں اپنے بارے میں ایک نئی سمجھ قائم کر لیتا ہے اس کے بعد ماضی

اور مریض کو اس طرح کی جذباتی پہچان کے عمل کو بنائے رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس عمل کو **عمل منتقل** (Transference) کہا جاتا ہے۔ معالج اس عمل کو بڑھاوا دیتا ہے کیونکہ اس سے مریض کو لاشعوری تصادم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مریض اپنے غصہ، مایوسی، ڈر اور اداسی کا اظہار کرتا ہے جو ماضی میں کسی شخص کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اور اس کا اظہار وہ اس وقت نہیں کر پاتا ہے۔ معالج اس شخص کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی مرحلہ کو منتقلی خلل اعصاب (Transference neurosis) کہا جاتا ہے۔ ایک مکمل منتقلی خلل اعصاب مریض کے درون نفسی کشاش کی نوعیت کی واقفیت کرانے میں معالج کی مدد کرتا ہے۔ ایک ثابت منتقلی ہوتی ہے جس میں مریض معالج کے ساتھ محبت میں بنتا ہو جاتا ہے اور معالج سے اس کی منظوری چاہتا ہے۔ منتقلی تب موجود ہوتی ہے جب مریض میں معالج کے تین گم، غصہ اور دشمنی کا احساس ہوتا ہے۔

منتقلی کے عمل میں رکاوٹ بھی رہتی ہے جسے مزاحمت کہا جاتا ہے۔ چونکہ منتقلی کا عمل لاشعور میں دبی خواہشات اور تصادم کو ظاہر کرتا ہے اس سے تکلیفیں بڑھتی ہیں اس لیے مریض منتقلی کی مزاحمت کرتا ہے۔ اس مزاحمت کی وجہ سے مریض علاج کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے تاکہ لاشعور میں دبی ہوئی تکلیف دہ باقتوں کو یاد کرنے سے نج سکے۔ رکاوٹ شعوری اور لاشعوری دونوں ہو سکتی ہیں۔ شعوری رکاوٹ (conscious resistance) اس وقت سامنے آتی ہے جب مریض جان بوجھ کر کچھ معلومات چھپاتا ہے۔ لاشعوری رکاوٹ اس وقت موجود ہوتی ہے جب مریض علاج کے درمیان خاموش ہو جاتا ہے، غیر جذباتی اور فضولیات کی تفصیل کو یاد کرتا ہے، اہم تاریخوں کو جھوٹا ہے اور علاج کے لیے دیر سے آتا ہے۔ معالج مریض سے ان کے بارے میں بار بار تکرار کر کے ان رکاوٹوں سے ابھرتا ہے اور کبھی ان کے اندیشه، خوف یا شرم جیسے جذبات جن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کو بھول کر ان سے ابھرتا ہے۔

نفیاتی ترجمانی ایک بنیادی ترکیب ہے جس کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ تکراوا اور وضاحت ترجمانی کی دو تخلیقی ترکیب ہیں۔ تکراوا میں معالج

ان کی طبعی بانجھ رہبری کا کام کرتی ہے۔ خوف کی زیادتی کے علاج میں کسی تکنیک کے ایک سیٹ کی ضرورت ہوگی جب کہ غصہ کی حالت میں دیگر سیٹ کی ضرورت ہوگی ایک اداس مریض کا تشویش میں بتلام مریض سے بہتر طریقہ سے علاج ہوگا۔ طرز علاج کی بنیاد غیر مناسب طرز عمل کی وضع اور وہ بات جو غیر مناسب طرز عمل کو جاری مستحکم رکھتی ہیں پر ہوتا ہے۔ اور وہ طریقہ جو انہیں بدل سکتا ہے ان پر بھی ہوتا ہے۔

علاج کا طریقہ

ایسے مریض جن میں نفسیاتی پریشانیاں اور جسمانی علامتیں پائی جاتی ہیں جو جسمانی بیماری نہیں کہی جاسکتی، اس کے کرداری وضع کے تجزیے کے لیے انتڑیوں لیا جاتا ہے۔ کرداری تجزیے گذشتہ ناقص سیکھ اور عوامل ناقص سیکھ کو برقرار اور جاری رکھتے ہیں کو جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناقص کردار ایسے طرز عمل ہیں جو مریض میں تکلیفیں پیدا کرتے ہیں۔ سابقہ عوامل وجوہاتی عناصر ہیں جو مریض کو اس طرح کے برداو کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسے قائم رکھنے والے عوامل وہ ہیں جس کی وجہ سے موجودہ طرز عمل قائم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوان آدمی جو سکریٹ پینے کی برقی عادت کا شکار ہے، وہ سکریٹ چھوڑنے میں مدد چاہتا ہے۔ کرداری تجزیے کا اہتمام مریض اور اس کی فیملی کے ممبران سے انتڑیوں لینے کے ذریعہ کیا جاتا ہے جس سے، یہ پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے سالانہ امتحان کی تیاری کے وقت سکریٹ پینا شروع کیا۔ اس نے سکریٹ پینے سے تشویش کی شدت میں کمی کا ذکر کیا۔ اس طرح تشویش بڑھانے والے جزو اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ راحت کا احساس اس کے لیے سکریٹ جاری رکھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور مریض سکریٹ کو ایک عادت کے طور پر جاری رکھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ مریض سکریٹ کو ایک عادت کی طرح سیکھ لیتا ہے جو اندیشہ سے آرام پانے کی وجہ سے مستحکم ہو جاتا ہے۔

ایک بار جب تکلیف دینے والے غیر مناسب طرز عمل کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے ایک خاص منصوبہ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔

کے تصادم دفاعی میکانیٹ اور جسمانی علامتیں اب باقی نہیں رہتیں اور مریض نفسیاتی طور پر ایک صحت مند انسان ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں تحلیل نفس (Psychoanalysis) کا کام پورا ہو جاتا ہے۔

علاج کی مدت

تحلیل نفسی کئی سالوں تک جاری رہتی ہے ایک گھنٹے کی میقات کے ساتھ ہر ہفتے میں 5—4 دن کے لیے۔ یہ ایک گھر اعلان ہے۔ پہلا مرحلہ شروعاتی دور کا ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو معمول کی واقفیت ہوتی ہے، وہ ماہر تحلیل کارکے ساتھ معالجاتی تعلقات قائم کرتا ہے، ماضی اور موجودہ تکلیف دہ حالات کے بارے میں شعور سے حاصل سطحی مواد کو حافظے میں لانے کے عمل سے کچھ سکون محسوس کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تدقیق کا دور ہوتا ہے جو ایک طویل عمل ہے۔ اس میں مریض کی طرف سے منتقلی، مزاحمت، محاذ آرائی اور صراحت یعنی معانلح کی طرف سے پوری کارکردگی کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سارے عمل آخرا مریض میں سوچ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ اختتام کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں تحلیل کارکے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور مریض علاج چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

کرداری علاج

کرداری معالجے کی اولین شرط ہے کہ نفسی تکالیف غیر مناسب کرداری وضع یا سوچنے سے ہوتی ہے۔ لہذا حال میں مریض کے کردار اور افکار پر زور دیتا ہے۔ ماضی صرف غیر مناسب سوچ و طرز عمل کے بناؤ کو سیکھنے کے لیے کارگر ہوتا ہے۔ اس میں ماضی کو سرگرم یا فعال نہیں کیا جاتا ہے صرف ناقص وضع کو موجودہ طور پر درست کیا جاتا ہے۔

سیکھنے کے نظریاتی اصول کا کلینیکی اطلاق ہی کرداری علاج پر ہوتا ہے۔ کرداری علاج میں مخصوص تکنیک کا ایک بڑا سیٹ ہے جو مداخلت کرتا ہے۔ یہ کوئی متحده نظریہ نہیں ہے، جس کا اطلاق تشخیص اور موجود علاقوں سے پرے ہو۔ کسی خاص تکنیک یا اطلاقی مداخلت کے انتخاب میں مریض کی علامتیں اور

مریض کے ابھرنے کی سطح میں کمی لانے، طرز عمل کو کا سیکی الترام کے ذریعہ بدلنے ساتھ ہی ساتھ ضرورت پڑنے پر خلای آموزشی طریقہ عمل کا استعمال کرنا شامل ہے۔

منفی تقویت (Negative reinforcement) اور اکراہی الترام

(Aversive conditioning) طرز عمل کو تبدیل کرنے کی دو اہم تکنیک ہے۔ جیسا کہ آپ گیارہویں درجہ میں مطالعہ کرچکے ہیں کہ منفی تقویت (Negative reinforcement) کا مطلب ایسی خواہشات کو اپنانا ہے جس کا نتیجہ تکلیف دہ اور جوناپنند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد کسی ایسے بچے کو ڈانتٹا ہے جو کلاس میں شور مچاتا ہے اسے ہی منفی اکراہی الترام کہا جاتا ہے۔

اکراہی الترام کا مطلب ایسے ناپسندیدہ عمل کو دہرانا ہے جس کا نتیجہ بھی تکلیف دینے والا ہے مثلاً ایک الکوھول پینے والے کو بھلی کا ایک جھٹکا دیا جاتا ہے۔ اور اسے الکوھول کو سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بار بار ساتھ میں کرنے پر الکوھول کی مہک اسی طرح یزاری پیدا کرتی ہے جس طرح سے بھلی کے جھٹکے جواس سے مسلک ہے۔ اور فردا الکوھول ترک کر دے گا۔ اگر معقول طرز عمل کبھی کبھی ہوتا ہے تو اسے ایجادی یا ثابت تقویت فراہم کی

اس علاج کا مقصد غیر مناسب طرز عمل کو بھلا کریا ختم کر کے اس کی جگہ ایک مناسب طرز عمل کی وضع کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ معانچ سے مقدم عمل اور مؤخر عمل قائم کر کے پورا کرتا ہے۔ مقدم عمل کسی ایسی چیز کو تبدیل کرنے کے ذریعہ جو ایسے برتاو میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس کے کردار پر تقابو پاتا ہے۔ اس طرح کی تبدیلی کسی خاص نتیجہ کو مضبوطی دینے والے اسباب کی قدر کو بڑھایا گھٹا کر کی جاسکتی ہے۔ اسے عملیہ قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ رات کا کھانا کھانے میں پریشان کرتا ہے تو عملیہ انجام دینے کے طور پر اسے چائے کے وقت دیے جانے والے کھانے کی مقدار میں کمی کرنی ہوگی اسی سے اس کے رات کے کھانے کی بھوک بڑھے گی اور اس کے لیے رات کے کھانے کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ مزید بچے کے ڈھنگ سے کھالینے پر اس کی تعریف کرنے سے اس کے اس طرز عمل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چائے کے وقت کھانے میں کمی اسبابی وضاحت ہے اور اس کے کھالینے پر تعریف کرنا نتیجہ کی وضاحت ہے۔ اس سے رات کے کھانے کی عادت بچہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔

کرداری تکنیک

طررز عمل میں تبدیلی کے لیے کئی تکنیک موجود ہیں۔ ان سبھی تکنیک کے اصول

باکس
5.2

تشویش کسی نفسیاتی پریشانی کے اظہار کا طریقہ ہے جس کے لیے مریض علاج تشویش ابھارنے کی سطح میں اضافہ کے طور پر دیکھتے ہیں اس بنابری ناقص برتاو کے سبب کی حیثیت سے کام مقدم عامل کے طور پر کرتا ہے۔ کوئی مریض اسے کم کرنے کے لیے سگریٹ کا استعمال کر سکتا ہے وہ اس کے سبب دیگر سرگرمیوں میں بھی الجھکتا ہے جیسے کھانے میں یا اپنی پڑھائی پر زیادہ دریتک و دھیان نہیں دے پائے۔ اس لیے اندیشہ میں کمی سے دوسرے طرز عمل جیسے زیادہ کھانا، سگریٹ کے استعمال وغیرہ میں بھی کمی ہوگی۔ طریقہ استراحت کا استعمال اندیشہ میں کمی لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تریجی عضلاتی استراحت اور مراقبہ آرام کی کیفیت لاتا ہے۔ تریجی عضلاتی استراحت میں مریض کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ عضلاتی تناو سے واقف ہونے کے لیے اپنے عضلات کو کھینچیں۔ مریض کے عضلات کے کھینچاؤ کے طریقہ سیکھ لینے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تناو کو جانے دیں۔ مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ کھینچاؤ وہ ہے جو اس میں ابھی موجود ہے اور اسے اس کے بخلاف کرنا ہے۔ ایسا بار بار کرنے سے مریض جسم کے سبھی عضلات کو آرام دینا سیکھ لیتا ہے۔ اب اس بار کے بعد والے حصہ میں مراقبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔

پیدا کرنے والے محرك (stimulus) کی ایک فہرست اس طرح تیار کرتا ہے کہ کم اندریشہ دینے والے محرك فہرست کے پیچھے میں ہوا کرتے ہیں۔ معانع پہلے مریض کو آرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب سے کم اندریشہ دینے والے حالات کے بارے میں سوچیں۔ باس 5.2 میں آرام کرنے کے طریقہ کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طرح کے کھنچاؤ کے احساس ہونے پر اندریشہ دینے والے حالات کے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ میقات کے آخر میں مریض آرام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خوفناک حالات کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اس طرح مریض کا منظم سب حساسیت (Systematic desensitization) ہو جاتی ہے۔

یہاں دو طرفہ اظہار بستگی (reciprocal inhibition) کے اصول کام کرتے ہیں اس اصول کے مطابق دو مختلف قوتون کی ایک ساتھ موجودگی سے کمزور طاقت میں رکاوٹ آتی ہے۔ اس طرح آرام کرنے کا رد عمل پہلے قائم ہوتا ہے اور کم اندریشہ دینے والے حالات کا تصور اور اندریشہ سے آرام کے ذریعہ چھکا کراہوتا ہے۔ آگے مریض زیادہ اندریشہ دینے والے حالات کا تصور بھی آرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کر سکتا ہے۔ ماذنگ ایک طریقہ کار ہے جس میں مریض ایک خاص انداز میں طرز عمل کرنا سیکھتا ہے جسے وہ کسی نمونہ یا معانع پر کوکھ کر جو شروع میں ایک روپ ماذل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اکر اہی آموزش یعنی دوسروں کو کوکھ کر سیکھنا، کا استعمال اور طرز عمل میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پر نوازنابھی ایک طریقہ کار ہے۔

کرداری کی متعدد مختلف تکنیکیں۔ کرداری تحریجی چیختگی معانع کے ہنر پر منحصر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مناسب تکنیکیں بھی معانع کے ہنر پر ہی منحصر ہوتی ہیں۔

وقوفی علاج

وقوفی معالجات میں غیر معقول افکار و عقائد میں نفسیاتی پریشانیوں کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں۔ البرٹ ایلیس نے معقول جذباتی علاج (Rational) (

جاتی ہے تاکہ اس گھاٹے کو کم کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہوم ورک روزانہ نہیں کرتا ہے تو اس کی ماں اثباتی تقویت کا استعمال کر سکتی ہے جس کے تحت وہ بچے کو ہوم ورک وقت پر پورا کر دینے پر اچھا اچھا کھانا فراہم کرے۔ کھانے کی شکل میں ایجادی تقویت بچے میں وقت پر ہوم ورک کرنے کے طرز عمل کو بڑھائے گی۔ جن لوگوں میں کرداری مسائل پائے جاتے ہیں انہیں ٹوکن کی شکل میں انعام معقول طرز عمل کے ہونے پر دیا جاسکتا ہے۔ ان ٹوکنوں کو جمع کر کے ان کے بدلتے مریض کے گھونمنے یا بچے کو کھلانے پلانے جیسے انعام دیے جاسکتے ہیں۔ اسے ٹوکن اکونومی (Token economy) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

غیر مناسب طرز عمل میں کمی اور معقول طرز عمل میں اضافہ ساتھ ساتھ مختلف تفریقی تقویت (Differential reinforcement) کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ مناسب طرز عمل کے لیے اثباتی اور غیر مناسب طرز عمل کے لیے منفی تقویت کو ساتھ ساتھ استعمال میں لانا بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مناسب طرز عمل کو ایجادی مضبوطی فراہم کی جائے اور غیر مناسب طرز عمل کو نظر انداز کر دیا جائے دوسرا طریقہ کار کم تکلیف دینے والا اور زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی جب اس کے کہنے پر فلم نہیں دکھائی جاتی ہے۔ تو وہ روٹھ جاتی ہے اور روتی ہے۔ والدین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نہ روئے اور نہ روٹھئے تو اسے فلم دکھائیں اور جب وہ روئے اور روٹھئے تو نہ دکھائیں۔ مریض کے والدین کو یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ لڑکی کے رونے و روٹھنے کو نظر انداز کر دیں۔ اسے فلم دکھانے کے لیے کہنا جو ایک مناسب طرز عمل ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور رونے و روٹھنے کا طرز عمل جو غیر مناسب ہے اس میں کمی آتی ہے۔

آپ بے وجہ خوف کے بارے میں پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ منظم ازالہ تحسس ایک طریقہ کار ہے جسے wolpe نے متعارف کیا تھا۔ بے وجہ خوف کے علاج کے لیے دیا۔ اس میں مریض کا انترو یو اس کے اندر خوف بڑھانے والے حالات کی معلومات کے لیے کیا جاتا ہے معانع اندریشہ

میں تھے تک سوچنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ مریض انہی زندگی کے فلسفہ میں تبدیلی لا کر اپنے نامعقول عقیدہ میں تبدیلی لانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس طرح معقول نظام عقیدہ نامعقول نظام عقیدہ کی جگہ لے لیتا ہے اور نفسی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے۔

وقوفی علاج کا ایک دوسرا طریقہ ایروون کا ہے۔ نفسی دباؤ سے متعلق ان کے اصول کی امتیازی خصوصیت اندیشہ یا مایوسی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ خاندان اور سماج سے حاصل ہوئے بچپن کے تجربے بنیادی نظام عمل تیار کرتے ہیں جس میں انسان کے عقائد و طریقہ عمل شامل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مریض جسے ایک بچہ کی حیثیت سے اس کے والدین نے نظر انداز کیا ہوا، ایک احساس پایا جاتا ہے کہ اسے لوگ نہیں چاہتے۔ ان کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہوتا ہے۔ اس کا اسکول میں اپنے استاد کے ذریعہ سرے عام مذاق اڑایا گیا۔ اس حساس واقعہ نے اس میں وہ بنیادی احساس پیدا کیا کہ مجھے لوگ نہیں چاہتے جس کی وجہ سے اس میں لازمی منفی خیالات پیدا ہو گئے۔ یعنی خیالات نامعقول خیالات ہیں کہ لوگ مجھے چاہتے نہیں، میں بد صورت ہوں، میں بیوقوف ہوں، میں آگے ترقی نہیں کر سکتا وغیرہ ایسے منفی خیالات کی امتیازی خصوصیات وقوفی منفی مسخ شدگی ہے۔ وقوفی منفی شدگی ایک طریقہ فکر ہے جس کی نوعیت ایک عام سوچ کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت کو منفی طور پر توڑ مروڑ دیتی ہے۔ فکر کا یہ انداز اعتدال سے متجاوز وقوفی ساخت کہا جاتا ہے۔ اس سے سماجی حقیقت سے متعلق وقوفی عمل میں بھول ہو جاتی ہے۔

ایسے خیالات کے بار بار آنے سے اندیشہ اور اداسی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ معانج ایسے سوالات کا استعمال کرتا ہے جو سیدھا مریض کے عقیدہ اور فکر کو محروم کرنے والا ہے ہوا یہ سوالات کی مثال، لوگ آپ سے محبت کس وجہ سے کریں؟ آپ کے خیال میں کامیابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وغیرہ ایسے سوالات مریض کو اپنی منفی سوچ کے مخالف سمت سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جہاں سے اسے اپنے نظام ناقص افعال کے بارے میں سوچ بوجھ ملتی ہے اور وہ اپنے وقوفی ڈھانچے میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس علاج کا یہی

وضع کیا۔ اس علاج کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ نامعقول عقیدہ سابقہ حالات اور ان کے نتائج کے تبعث ثالث کا کردار بھاتی ہے۔ RET کا پہلا قدم اس باب عقیدہ نتائج کی تحلیل کرنا ہے جو نفسیاتی دباؤ کا سبب بنتے ہیں انہیں نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں مریض کا انٹرویو بھی لیا جاتا ہے تاکہ غیر معقول عقیدہ کا پتہ لگایا جاسکے جو موجودہ حقیقت کو توڑ مروڑ دیتی ہیں۔ نامعقول عقیدہ کو ہو سکتا ہے کہ کسی ماحول میں تجرباتی شہادت کا سہارانہ ملے۔ ان عقائد کی خصوصیت کی وضاحت ہوئی چاہیے، پر مشتمل طرز فکر کے ساتھ۔ یعنی اعتماد ہے یا کوئی چیز ضروری طور پر ہوئی چاہیے، کے ایک مخصوص انداز میں ہوئی چاہیے۔ غیر معقول عقائد کی

سرگرمی 5.3

آپ کا دوست امتحان سے پہلے بہت تذبذب اور گھبراہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ ادھرسے ادھر ٹھہر لتا ہے، پڑھائی نہیں کر پاتا اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی پڑھا تھا وہ اسے بھول چکا ہے۔ اس کی مدد کی کوشش کریں وہ گھری سانس لے اور، اسے 5-10 سیکنڈ تک روکے اور تسب اسے (سانس) باہر چھوٹے۔ اسے یہ عمل 5-10 بار دہرانے کے لیے کہیں اور اپنی سانس پر توجہ دینے کے لیے بھی کہیں۔ آپ بھی اس عمل کو گھبراہی کرے وقت کر سکتے ہیں۔

مثالیں ہیں، ”کسی شخص کو ہمیشہ سمجھی لوگوں کو پیار کرنا چاہیے۔“ ”انسان کی پریشانی کی وجہ بیرونی واقعات ہیں جن پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا“، وغیرہ نامعقول عقیدہ کی مثالیں ہیں مقدم حالات کی منفی ادراک جو نامعقول عقیدہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، میں نتیجے کے طور پر منفی جذبات و طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ نامعقول عقیدہ کا اندازہ قدر انٹرویو اور سوال نامے کے ذریعہ لگایا جاستا ہے۔ RET کے طریقہ عمل میں معانج نامعقول عقیدہ کی غیر ہدایتی سوال نامے کے عمل کے ذریعہ تردید کر دیتا ہے سوال کی نوعیت برآہ راست نہ ہو کر سیدھی سادی ہوتی ہے۔ سوالات مریض کو اپنی زندگی اور اس کے مسائل کے

کرنا اور بغیر بکھرے، توازن قائم رکھنے سے کی جاتی ہے۔ مر بوط ہونے کا مطلب، پورے ہونے کا احساس، ایک مکمل انسان ہونے کے سب مختلف تجربات کا سامنا کرنے کے باوجود وہ شخص ویسا ہی رہتا ہے۔ جس طرح سے کھانا اور پانی کی کمی کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح خود یافتگی کی ناکامی کی وجہ سے بھی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت یابی تجھی آتی ہے جب مریض اپنی زندگی میں خود یافتگی یا خود تحقیق کی راہ میں اسے رکاوٹ کے طور پر سمجھ جاتا ہے اور اسے دور کر پاتا ہے۔ خود یافتگی کے لیے کھل کر جذباتوں کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ خاندان اور سماج جذباتی اظہار پر پابندی عائد کرتا ہے کیونکہ اس سے تخریبی قوت کے مسلط ہونے سے سماج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جذباتی اظہار پر اس طرح کی پابندی سے تخریبی طرز عمل اور منفی جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں اس طرح یہ علاج ایک جائز بصیرتی اور قابل قبول ماحول تیار کرتا ہے جس میں مریض کے جذبات کا کھلا اظہار ممکن ہوتا ہے، پیچیدگی اور توازن کی تکمیل حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مریض کو اپنے طرز عمل کو کنٹرول کرنے کی آزادی اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ معالج صرف ایک رہبر اور سہولت فراہم کرنے والا ہوتا ہے۔ مریض خود علاج کی کامیابی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس علاج کا اہم مقصد مریض میں شعور کو بڑھانا ہوتا ہے۔ صحت یابی مریض کے اپنے بارے میں بے نظیر سوجہ بوجھ کے ذریعہ آتی ہے۔ مریض اپنی نموکے لیے کام شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے اس میں صحت یابی آتی ہے۔

وجودی علاج

Victor Frankl نام کے ایک نفیسی امراض کے معالج اور علم الاعصاب کے ماہر شخص نے علاج بذریعہ الفاظ کا نظریہ پیش کیا۔ Logo روح کے لیے ایک یونانی لفظ ہے اور ”Logotherapy“ کا مطلب روح کا علاج ہے۔ Frankl نے اس عمل کو یہاں تک کہ خطرناک حالات میں بھی معنوی عمل بتایا ہے۔ مطلب جاننے کی بنیاد پر وجود کی روحانی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ لا شعور جس میں خواہشات دبی ہوتی ہیں

اس طرح کے وقوفی ردوبل ہوں جس سے کہ اندیشہ اور مایوسی میں کمی لائی جاسکے۔ کرداری علاج کی طرح وقوفی علاج بھی مریض کے خصوصی مسائل کو حل کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ نفیسی حرکی علاج کے بر عکس کرداری علاج میں کھلاپن ہے یعنی معالج اپنے طریقہ عمل میں مریض کو شامل کرتا ہے۔ یہ چھوٹا ہوتا ہے جو 20-10 دن کی میقات میں ختم ہوتا ہے۔

وقوفی کرداری علاج

موجودہ دور میں وقوفی کرداری علاج (CBT) سب سے مقبول ہے۔ نفسی علاج کے نتائج و تاثرات سے متعلق تحقیقات سے یہ رائے قائم ہو چکی ہے کہ CBT بہت سارے نفیسی انتشار جیسے اندیشہ، اداسی، گھبراہٹ اور سرحدی شخصیت انتشار وغیرہ کے لیے ایک مختصر اور با اثر علاج ہے۔ CBT نفسی مریضیات کی خاکہ نگاری کے تین ایک حیاتی نفیسی اسماجی نظریہ اپناتا ہے۔ یہ وقوفی علاج کو کرداری طریقہ کار کے ساتھ جوڑتا ہے۔

منطق یہ ہے کہ کسی مریض کی پریشانی کی جڑ حیاتیاتی، نفیسی اسماجی معلومات میں ہوتی ہے۔ اس لیے استراحت کے طریقہ عمل کے ذریعہ حیاتی پہلو ماحولیاتی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک قابل فہم طریقہ کار بناتی ہے جس کا استعمال آسان، موثر اور مختلف قسم کے نفیسی انتشار کے علاج کے لیے مناسب بھی ہے۔

انسان مرکزی وجودی علاج

انسانی وجودی معالجات کا یہ ماننا ہے کہ نفیسی تکالیف تہائی، علاحدگی اور زندگی میں ناکامی اور مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

انسان ذاتی نشوونما، خود یافتگی اور جذباتی فروغ کی خلقی ضرورت کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ جب سماج اور خاندان کے ذریعہ ان ضرورتوں کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نفیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود یافتگی کی تعریف ایک پیدائشی قوت کی حیثیت سے کی گئی ہے جو انسان کو ایک زیادہ پیچیدہ، متوازن اور مر بوط ہونا یعنی پیچیدگی حاصل

بات کا تعین کرتی ہے کہ مریض خود کو بے خطر محسوس کر رہا ہے اور وہ معانج پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ مریض خود کو اس حد تک محفوظ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ معانج مریض کے احساسات کو ایک غیر بصیری انداز میں دیکھتا ہے۔ یہ انداز نظر مریض کے بیانات کو منوار کر کیا جاتا ہے لیعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے معلومات میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کا خیال مریض کو مکمل بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مطابقت کو بڑھا کر ذاتی تعلقات کو بہتر بنایا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ یہ علاج مریض کو معانج کے سامنے حقیقی کردار وضع کرنے میں مدد کرتا ہے جو اس کے لیے ایک مدگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔

گیستالٹ نظریہ علاج

جرمن لفظ گیستالٹ کا مطلب پورا یا مکمل ہونا ہے۔ اس علاج کو (Frits Freiderick Perls Laura Perls کے ساتھ مل کر پیش کیا۔ Gestalt Therapy کا مقصد انسان کے ذاتی شعور کو بڑھانا ہے وہ خود کو اپنانا تھا اس میں مریض کو جسمانی عملیات و جذبات کو جوشور کے باہر دبے ہوئے ہیں، کی پچان کرنا سکھایا جاتا ہے۔ معانج مریض کے تصادم اور احساسات سے متعلق تصورات کو باہر نکالنے میں مدد کر کے اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ اس علاج کا استعمال کسی گروپ پر بھی کیا جاسکتا ہے۔

حیاتی طبی علاج

نفسی پریشانیوں کے علاج میں دواوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اپنی بیماری کے علاج کے لیے دواوں کے نہجہ کا استعمال پڑھ لکھنے طبی پیشے درکرتے ہیں جیسی نفسی معانج کہا جاتا ہے۔ وہ طبی ڈاکٹر ہوتے ہیں جن میں ہنی بیماریوں کے علاج، اس کی تشخیص اور سمجھ میں مہارت ہوتی ہے۔ استعمال کی جانے والی دواوں کی نوعیت بیماری کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ شدید ہنی بیماری جیسے انتشار نفیس یا دو قطبی انتشار میں دافع نفسیاتی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام ہنی بیماری جیسے تعمیمی تشویش یا رجعتی افسردگی میں بلکن دواوں کی ضرورت

(باب 2 دیکھیں) ایک روحانی لاشعور بھی ہوتا ہے۔ جس میں محبت کا ذخیرہ جمالیاتی شعور اور زندگی کی قدر کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اعصابی اندیشہ تب ہوتا ہے جب کسی شخص کی زندگی کے مسائل کو جسمانی، نفسیاتی اور روحانی پہلوؤں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ Frankl نے روحانی تشویش کے کردار پر بھی زور دیا جس کا نتیجہ مہمل ہوتا ہے اور اس لیے اسے وجودی اندیشہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی اعصابی اندیشہ کی بنیاد روحانی ہوتی ہے۔ علاج بذریعہ الفاظ کا مقصد اپنے مطلب کو جانتا وزندگی میں چاہے کیسے بھی حالات ہوں اس کی ذمہ داری کو سمجھنا۔ معانج مریض کی زندگی کی اس انوکھی نوعیت پر زور دیتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے مطلب کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

علاج بذریعہ الفاظ میں معانج کھلے دل سے اپنے احساسات، اقدار اور مریض کے ساتھ اپنی وجود کا ذکر کرتا ہے۔ جس میں ابھی اسی وقت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں منتقلی کی شدت سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ معانج مریض کو حال کی بے وسیگی کے بارے میں یاد دہانی کرتا ہے۔ اس مقصد سے مریض کو اپنے وجود کا مطلب جانے میں اس کی مدد کرنا ہے۔

مریض مرکز علاج

مریض مرکز علاج Carl Rogers نے دیا ہے۔ راجس نے سائنسی تحقیق کو مریض کے انفرادی عمل دستور کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ راجس نے نفسی علاج میں خودی کے تصور کو پیش کیا جو کسی انسان کے اندر آزادی اور مرضی سے رہتی ہے۔ اس علاج میں گرم جوشی کا رشتہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس میں مرض اپنے بکھرے احساسات کو یاد کر پاتا ہے۔ معانج ہم احساس ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ مریض کے تجربہ کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ مریض کے لیے بلا شرط ثابت خیال رکھتا ہے یعنی مریض کو پوری طرح سے جیسا وہ ہے اسی طرح اپنالیتا ہے گویا کہ معانج و مریض کے اس ہم احساس دونوں کے نتیجے جذباتی گونج پیدا ہوتی ہے۔ بلا شرط ثابت خیال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معانج مریض کے ذریعہ علاج کے دوران تباہی گئی با توں یا کیے گئے کاموں پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔ یہ منفرد غیر مشروط گرم جوشی اس

ایک خوبی ہے کیونکہ یہ معانج کی لگاتار موجودگی اور اس کی گرم جوشی والے احساسات کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔

3- علاج کے شروع میں جب کہ مریض کے مسائل کی نوعیت اور اس کے ذریعہ اٹھار کیے گئے جذباتی خیالات کو سمجھنے کے لیے اس کا انٹرویو یا جاتا ہے۔ جذبات کے اٹھار کے عمل کو (Catharsis) کہا جاتا ہے اور اس کی اپنی صحت یا بیکھر کی خوبیاں ہیں۔

4- اس کے علاوہ کئی غیرنوعی اجزاء ہیں جن کا تعلق نفیسیاتی علاج سے ہے۔ ان میں سے کچھ اجزاء مریض سے اور کچھ معانج سے تعلق رکھتے ہیں انھیں غیرنوعی اجزاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف نفیسیاتی نظام علاج میں مریضوں اور معانج میں پائے جاتے ہیں۔ غیرنوعی اجزاء مریضوں میں تبدیلی کی ترغیب علاج کی بنابری، بہتری کی توقع وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسے مریض متغیرہ کہا جاتا ہے۔ غیرنوعی اجزاء جو معانج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں بہتر مراج جذباتی تصادم کی کمی، اچھی صحت کی موجودگی وغیرہ شامل ہیں۔ انھیں معانج متغیرہ کہا جاتا ہے۔

نفیسیاتی علاج میں اخلاقیات

کچھ اخلاقی معیار ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا پیشہ ور معانج کو ضروری ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں:

- 1- مریض کی مرخصی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- 2- مریض کے اعتماد کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
- 3- معانج کی کوششوں کا مقصد ذاتی تکالیف کا اور اسے مریض پر لاگو کرنا ہونا چاہیے۔
- 4- معانج اور مریض کے تعلقات کی یک جھقی اہمیت رکھتی ہے۔
- 5- انسانی حقوق اور وقار کا احترام کرنا۔
- 6- پیشہ ورانہ امانت اور ہمدردی بہت ضروری ہوتی ہے۔

ہو سکتی ہے۔ ہنہی علاج کے لیے جن دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے غلط اثرات بھی ہو سکتے ہیں جنھیں سمجھنا اور دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کا علاج مناسب طبی نظری میں ہو۔ یہاں تک کہ دلیسی دوائیں جو ایک عام انسان پڑھائی کرنے کے واسطے جانے کے لیے کرتا ہے یا خود کو کسی پارٹی میں حوصلہ مندر رکھنے کے لیے کرتا ہے ان کے بھی غلط اثرات ہوتے ہیں۔ ان دواؤں سے اس کی لٹ پڑ جاتی ہے اور وہ دماغ اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے خود سے کسی دوا کا استعمال کرنا خطرناک ہوتا ہے، وہ دماغ کو متاثر کرتی ہے۔

آپ نے فلموں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن میں ہنہی انتشار پایا جاتا ہے اور انھیں بھلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ بر قی تشنیجی علاج (ECT) حیاتی طبی علاج کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں تشنیج پیدا کرنے کے لیے مریض کو بر قیرہ کے ذریعہ دماغ میں بھلی کا بلکہ جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ جھٹکا صرف نفیسیاتی معانج ہی دے سکتا ہے۔ اور اسے تدبیجا جاتا ہے جب مریض میں سدھار کے لیے اسے دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک روز مرہ کا طریقہ علاج نہیں ہے یہ صرف اسی حالت میں دیا جاتا ہے جب دوائیں مریض کی بیماریوں میں کام نہیں کرتی ہیں۔

نفیسیاتی علاج میں صحت یا بیکھر کے معاون عوامل

جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نفیسیاتی علاج نفیسیاتی تکالیف کا ایک علاج ہے کئی ایسے اسبابی اجزاء ہیں جو صحت یا بیکھر کے عمل میں مددگار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اسبابی اجزاء مدرج ذیل ہیں۔

- 1- معانج کے ذریعہ اپنا یا گیا طریقہ کار اور اسے مریض پر لاگو کرنا صحت یا بیکھر کا ایک اہم جز ہے۔ اگر کرداری نظام و CBT اسکول کسی تشویش میں بتلا مریض کی صحت یا بیکھر کے لیے اپنایا جاتا ہے تو اس میں آرام کرنے کے طریقہ کار اور وقوفی معموقیت زیادہ مددگار ہوتی ہے۔
- 2- معالجاتی تال میں جو معانج و مریض کے نیچے قائم ہونا بھی صحت یا بیکھر کی

متداول صورتی علاج

ہیں میں بھی اداسی اور دباؤ کم ہوتے دیکھا گیا۔ بے خوابی کا علاج یوگا سے ہوتا ہے۔ یوگا سونے کا وقت گھٹادیتا ہے اور نیند کی خوبیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ کنڈلنی یوگا جسے امریکا میں پڑھایا جاتا ہے ہنی یماریوں کے علاج میں اثردار ہوتا ہے کیلیغور نیا یو نورٹی سانڈ یگ، یو. ایس. اے. میں Institute of non-linear science نے بھی پایا کہ کنڈلنی یوگا بھی OCD کے علاج میں اثردار ہوتا ہے کنڈلنی یوگا میں پرانا غم یا سانس کی تکنیک کو منتر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اداسی کے بار بار آنے سے روکنے کے لیے پورے دماغ پر بنی گیان دھیان یا اپانہ مددگار ہو سکتی ہے اس طرح کے گیان دھیان سے مریض کو اپنی جذباتی مہیج کو بہتر طرز کاری میں مددلتی ہے اور اس طرح سے مجھ کے ناجائز طرز کاری سے روکتی ہے۔

فتی طور پر یمار لوگوں کی بحالی

نفسی علاج کے دو پہلو ہوتے ہیں یعنی علامتوں میں کمی اور جسمانی کام کا نجایا کیفیت زندگی میں بہتری، ہلکی یماری کی حالت جیسے تمیمی تشویش رجوعی افرادگی یا خوف کی علامتوں میں کمی کا تعلق زندگی کی کیفیت میں بہتری سے ہے۔ بہر حال، شدید قسم کی ہنی یماری جیسے انتشار نفسی کی علامتوں میں کمی کا تعلق کیفیت زندگی میں بہتری سے نہیں ہے۔ متعدد مریض جو چیزیں میں کمی کسی کام کو کرنے کی خواہش میں کمی یا لوگوں سے بات چیت کرنے کی خواہش میں کمی جیسی مخفی علامتوں میں بتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بحالی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ بحالی کا مقصد ہوتا ہے مریض کو طاقتوں بنانا تاکہ وہ کسی حد تک سماج کا ایک سودمندر کرن بن جائے۔ بحالی میں مریض کو سماجی ہنرمندی کی تربیت اور پیشہ جاتی علاج اور کیشل علاج دیا جاتا ہے۔ پیشہ جاتی علاج میں مریض کو کچھ ہنر سکھایا جاتا ہے جیسے مومنتی بنانا، کاغذ کا تھیلا بنانا اور بننا اس طرح ان کی مدد کی جاتی ہے تاکہ ان میں کام کرنے کی عادت پڑ سکے۔ سماجی ہنرمندی کی تربیت سے مریض میں ایسے بین شخصی تعلقات کے فروغ میں مددلتی ہے۔ یہ مدول پل اور ہدایت کے ذریعہ دی جاتی ہے جس کا مقصد مریض کو سماجی گروپ میں کام کرنے کی تعلیم دینا ہوتا

متداول معالجات کو ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ راوی طبی علاج یا نفسی علاج کی متداول علامتی صورت ہوتی ہیں۔ کئی متداول معالجات موجود ہیں جیسے مراقبہ (meditation)، سوئی کے ذریعہ علاج، (acupuncture) جڑی بولٹیوں سے علاج، یوگا وغیرہ۔ پچھلے 25 سالوں میں یوگا اور مراقبہ کو نفسیاتی تکالیف کے علاج کی حیثیت سے کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یوگا ایک قدیم ہندوستانی تکنیک ہے جس کی تفصیل پاتا نہیں کے یوگ سورت کے اشٹھانگ یوگ میں ملتی ہے۔ یوگ جیسا کہ عام طور پر اسے آج کل کہا جاتا ہے کا مطلب صرف آسن یا جسمانی انداز نشست کے ترکیب یا سانس لینے کے دستور عمل یا پرانا یا کسی دو کو ملا کر کرنا ہوتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب سانس پر توجہ دینے کا کام یا کسی چیز پر یا فکر یا منتر پر غور کرنے کے کام کو کہا جاتا ہے۔ یہاں دھیان و گیان میں خود کو مشغول کرنا ہوتا ہے۔ گیان دھیان میں جسے پورے دماغ پر مبنی مراقبہ بھی کہا جاتا ہے کوئی طے شدہ چیز یا فکر دھیان دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ انسان بذات خود جسم کے مختلف احساسات و فکر جوان کے شعور سے ہو کر گزرتی ہے پر دھیان دیتا ہے بیش ہواداری (Hyperventilation) لانے کے لیے جلدی سانس لینے کی تکنیک جیسا کہ سودرشن کریا یوگ (SKY) میں ہے کہ کم جو کھم کم خرچ والا ایک طریقہ بتایا گیا جسے دباؤ، تشویش (PTSD) اداسی دباؤ سے متعلق طبی یماری وغیرہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ SKY کا استعمال صحت عامہ مداخلتی تکنیک (Public health intervention technique) کی حیثیت سے PTSD سے چھکارا پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یوگ تکنیک کے استعمال سے انسانی فلاج، مزاج، دھیان، ذہن توجہ اور دباؤ کی برداشتگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہنرمند استاد سے مناسب تربیت اور آدھے گھنٹہ روزانہ مشق سے اس کے فائدہ میں اضافہ ہوتا ہے نہ نہیں (NIMHANS)، ہندوستان، میں ہوئی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ سودرشن کریا یوگ سے اداسی اور مایوسی میں کمی آتی ہے۔ زیادہ الکوھل لینے والے مریض جو SKY روزانہ مشق کرتے

ہے۔ وقونی تربیت بنیادی وقونی عمل جیسے دھیان، ذہن و دیگر کاموں میں اضافہ کے لیے دی جاتی ہے۔ مریض میں خاطر خواہ بہتری آنے کے بعد مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی سودمند روزگار کر سکیں۔

کلیدی اصطلاحات

تبادل کرداری علاج، حیاتی طبی علاج، مریض مرکزی علاج، وقونی کرداری علاج، ہم احساس ہونا، گیٹھ لٹ علاج، انسانی فطری علاج، نفسی حرکی علاج نفسی علاج، آباد کاری، رکاوٹ، ذاتی حقیقت جانا، مصالحتی تال میل ٹرانسفیرنس، بلا شرط ایجادی لگاؤ۔

- نفسی علاج نفسیاتی تکالیف سے صحت یابی کرے لیے ایک طریقہ علاج ہے۔ یہ یکسان طریقہ علاج نہیں ہے لگ بھگ 400 مختلف قسم کے نفسی علاج ہوتے ہیں۔
- نفسی تحلیل طرز عملی اور وقوفی و انسانیت وجودی جیسے کچھ اہم نظام نفسی علاج ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نظام کے اندر کئی نظریہ ہوتے ہیں۔
- نفسی علاج کا اہم جزو طبی ترتیب ہوتی ہے یعنی مریض کے مسائل سے متعلق بیانات اور کسی خاص نظریہ علاج کے تحت کسی مریض کا علاج۔
- معالجاتی تال میل معالج اور مریض کے درمیان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ معالج جس پر مریض کو بھروسہ ہوتا ہے اور معالج مریض کی جانب ہمدردانہ تعلق رکھتا ہے۔
- نفسی تکلیف میں مبتلا بڑوں کے نفسی علاج کا اہم طریقہ انفرادی نفسی علاج ہے اس میں معالج کو علاج سے قبل پیشہ و رانہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
- Meditation، Yoga جیسے کچھ متبادل معلومات بھی کچھ مخصوص نفسیاتی تکلیف کے علاج میں اثردار ثابت ہوتی ہیں۔
- ذہنی طور پر بیمار لوگوں کی کیفیت زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آباد کاری بہت ضروری ہے جب ایک بار ان کی علامتوں میں کمی ہو جائے۔

خلاصہ

اعادہ کے سوالات

- 1۔ نفسی علاج کی نوعیت اور رسائی کو بیان کریں۔ نفسی معالجات میں معالجاتی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔
- 2۔ نفسی علاج کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں؟ کس بنیاد پر انھیں درجہ بند کیا گیا ہے۔
- 3۔ معالج مریض سے کہے کہ وہ اپنے سارے جذبات کو بیان کرے بہاں تک کہ پچھن کے تجربات کو بھی استعمال میں آنے والے انکی اور طریقہ علاج کو بیان کریں۔

- 4۔ طرز عملی علاج میں استعمال ہونے والی مختلف تکنیک کی وضاحت کریں۔
- 5۔ ایک مثال کے ساتھ وضاحت کریں کس طرح وقni تحریف ہوا کرتی ہیں۔
- 6۔ کون سے علاج مریض کے ذاتی فروع اور قوت کو جانے کو بڑھا دادیتے ہیں؟ اس طریقہ علاج کے بارے میں لکھیں جو اسی اصول پر بنی ہیں۔
- 7۔ وہ کون سے اسابی اجزا میں نفسی علاج کے تحت صحت یابی میں مدد کرتے ہیں؟ کچھ تبادل معالجات کی وضاحت کریں۔
- 8۔ ہنی طور پر بیمار لوگوں کی آباد کاری کے لیے کون کوں سی تکنیک استعمال میں آتی ہیں۔
- 9۔ ایک سماجی سیکھ کے نظریہ کا بانی چھپکی سے ہونے والے ڈر کس طرح دیکھتا ہے؟ نفسی تحلیل کرنے والا اسے کس طرح دیکھتا ہے؟
- 10۔ کیا الیکٹر و کنسو تھریپی (ECT) کو ہنی تکالیف کے علاج میں استعمال کرنا چاہیے؟
- 11۔ وقni طرز عملی علاج کس طرح کے مسائل میں سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے؟

پروجیکٹ کی تجویز

- اسکول میں جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اچھے پوائنٹ (سنہرے پوائنٹ یا اسٹار) حاصل کرتے ہیں اور کالے پوائنٹ پاتے ہیں جب آپ غلط کرتے ہیں یہ ٹوکن ایکنومی کا ایک نمونہ ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ تمام اسکول و کلاس روم کے کام کا جوں کی ایک فہرست بنائیں جس کے لیے آپ کو کلاس ٹیچر سے یادوں توں سے انعام یا تعریفیں ملی ہوں۔ آپ ان تمام کام کا جوں کی بھی ایک فہرست بنائیں جس کی وجہ سے ٹیچر نے سرزنش کی ہو یاد و متنوں نے ناراضگی دلکھائی ہو۔ اس کا آپ پر کیا اثر پڑا؟
 - اپنے ماہی کے کسی ایسے شخص کے بارے میں بیان کریں جنہوں نے لگاتار آپ کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھا ہو۔ اس کا آپ پر کیا اثر پڑا؟ وضاحت کریں۔
- اس طرح کی معلومات اپنے دوسرے دوستوں سے بھی کریں اور ایک رپورٹ تیار کریں۔



<http://www.sciencedirect.com>

<http://allpsych.com>.

<http://mentalhealth.com>



تعلیماتی اشارات

- طلباء سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ باب 2 میں خودی اور شخصیت میں مطالعہ کی بنیاد پر شخصیت کے کچھ نظریات کے ساتھ مختلف معالجاتی نظریہ کا تعلق قائم کریں۔
- رول پلے اور طلباء متعلق کچھ کرداری امور پر ڈرامے کا انعقاد کریں جیسے دوستوں کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے سے طلباء میں دلچسپی ہوگی اور اس میں نفیت کے اطلاق پر زور ڈالیں۔
- چونکہ علاج ایک ہنرمندی کا کام ہے اس لیے اس میں پیشہ و رانہ ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے طلباء کو اس کے استعمال سے چھنا چاہیے۔
- کوئی سرگرمی یا یات چیت جس کا گہر اثر طلباء کے نفس پر پڑتا ہو، کوٹھیک ڈھنگ سے استاد کے سامنے انجام دینا چاہیے۔